



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ج

ص

ص،

وَالْقُرْآنِ ذِي الْكِبْرِ

قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَزَّةٍ وَشَقَاقٍ

بلکہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلہ میں۔

كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ

بہت کھپا (ہلاک کر) دیں ہم نے ان سے پہلے سنگتیں (تو میں)،

فَنَادُوا إِلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

پھر لگ پکارنے، اور وقت نہ رہا خلاصی (بچنے) کا۔

.1

.2

.3

.4

صَلَّى
وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ

اور اچنہا (تعجب) کرنے لگے اس پر، کہ آیا ان کو ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے۔

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

اور لگے کہنے منکر یہ جادو گر ہے جھوٹا۔

أَجَعَلَ اللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا

.5

کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدل ایک ہی کی بندگی؟

إِنَّ هَذَا الشَّيْءٌ عَجَابٌ

یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات۔

وَانْطَلَقَ الْمُلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَنَّ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آهَانِكُمْ

.6

اور چل کھڑے ہوئے کتنے بیخ (سردار) ان میں کہ چلو اور ٹھہرے رہو اپنے ٹھاکروں (معبدوں) پر۔

إِنَّ هَذَا الشَّيْءٌ يُرِيدُ

بیشک اس بات میں (کہ الہ ایک ہے) کچھ غرض (مقصد) ہے۔

مَا سِمِعَنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ

.7

یہ نہیں سنا ہم نے اس پچھلے دین (ملت) میں۔ اور کچھ نہیں! یہ بنائی (من گھڑت) بات ہے۔

أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ كُرُّ مِنْ بَيْنِنَا

.8

کیا اسی پر اتری سمجھوتی (ذکر) ہم سب میں سے؟

بَلْ هُمْ فِي شَلٍِّ مِنْ ذُكْرِي

کوئی نہیں! ان کو دھوکا ہے میری نصیحت میں۔

بَلْ لَمَّا يَدْعُ وَقُوَا عَذَابٍ

کوئی نہیں! ابھی چکھی نہیں میری مار۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی مہر (رحمت) کے؟

الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ

جوز بردست ہے بخشنے والا۔

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

یا ان کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جوان کے بیچ ہے؟

فَلَيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ

تو چاہیے چڑھ جائیں رسی تان کر۔

جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُونٌ مِنَ الْأَحْزَابِ

ایک لشکر یہ ہے وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ

جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور فرعون میخنوں والا۔

.9

.10

.11

.12

.13

وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ لُوطٌ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

اور ثمود اور لوط کی قوم اور ایکہ کے لوگ۔

أُولَئِكَ الْأَخْزَابُ

وہ فوجیں (جہنوں نے شکست کھائی تھی)۔

.14

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرَّسُولَ فَهَقَّ عِقَابٌ

یہ جتنے تھے، سب نے یہی جھٹلایار رسولوں کو، پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا۔

.15

وَمَا يَنْظُرُهُؤَلَاءِ الْأَصْيَحَةَ وَاحِدَةً مَا هَا مِنْ فَوَاقٍ

اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ بھی، مگر یہی ایک چنگھاڑ کی، جو نقیچ میں دم نہ لے گی۔

.16

وَقَالُوا إِنَّا عَجِلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

اور کہتے ہیں اے رب شتاب (جلدی) دے ہم کو چھٹی ہماری (حصہ ہمارا)، پہلے (ہی) حساب کے دن سے۔

.17

اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَإِذْ كُرْ عَبْدَنَادَأْوَدَذَا الْأَيْدِي

ٹو سہتارہ (صبر کر) جو کہتے رہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، ہاتھ کے بل (بہت قوتیں) والا،

إِنَّهُ أَوَّابٌ

وہ تھار جو ع رہنے والا۔

.18

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعْهُ يُسَيِّحُنَ بِالْعَشَّيِ وَالْإِشْرَاقِ

ہم نے تالع کئے پھاڑ، اس کے ساتھ پاکی بولتے (تسیح کرتے) شام کو اور صبح کو۔

وَالطَّيِّرُ مَحْشُورٌ^ص

اور اڑتے جانور جمع ہو کر۔

كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ

سب تھے اس کے آگے رجوع (تابع) رہتے۔

وَشَدَّدُنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ

اور زور دیا (مستحکم کیا) ہم نے اسکی سلطنت کو، اور دی اسکو تدبیر اور فیصلہ بات کا۔

وَهُلْ أَتَاكَ نَبَأً الْخُصُمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ

اور پہچنی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی، جب دیوار کو د کر آئے عبادت خانے میں۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤِودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ^ص

جب پیٹھ (چلے) آئے داؤ د پاس تو ان سے گھبرا،

قَالُوا لَنَخْفُ^ص

وہ بولے مت گھبرا۔

خَصْمَانِ بَغَى بَعْصُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا لِشَطْطٍ

ہم دو جھگڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا،

وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ

اور دُور نہ ڈال بات کو، اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ۔

إِنَّ هَذَا أَخْيَلَكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ

یہ جو ہے بھائی ہے میرا اس کے ہاں ہیں ننانوے دُنیا اور میرے ہاں ایک دُنی۔

فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّزْنِي فِي الْخِطَابِ

پھر کہتا ہے، حوالے کر دو مجھ کو وہ اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں۔

ص

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ

بولا وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر، کہ مانگتا ہے تیری دُنی، ملانے کو اپنی دُنیوں میں۔

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَغْيِي بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ

اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر،

قل

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

مگر جو یقین لائے اور کام کئے اجھے، اور تھوڑے ہیں ویسے۔

وَظَنَّ ذَوِي الْأَنْوَافَ تَنَاهُ

اور خیال میں آیاداود کے کہ ہم نے اسکو جانچا (آزمایا ہے)،

فَاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَخَرَّ أَكْعَاوَأَنَابَ

پھر گناہ بخشواني لگا اپنے رب سے، اور گرا جھک کر اور رجوع ہوا۔ (سجدہ)

ص

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ

پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام،

26

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لِرُلْفِي وَحُسْنَ مَآبٍ

اور اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے، اور اچھا ٹھکانہ۔

يَا أَدُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

اے داؤد! ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں، سوتو حکومت کر لو گوں میں انصاف سے،

وَلَا تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيُفْضِلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اور نہ چل جی کی راہ (خواہش نفس) پر، پھر تجھ کو بچلاوے (بھٹکائے) اللہ کی راہ سے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

مقرر (بیشک) جو لوگ بچلتے (بھٹکتے) ہیں اللہ کی راہ سے، انکو سخت مار ہے، اس پر کہ بھلا دیا دن حساب کا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو، اور جو ان کے بیچ ہے نکتا،

ذَلِكَ ظُنُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا

یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں،

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاسِ

سو خرابی ہے منکروں کو آگ سے۔

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ

کیا ہم کریں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں، برابر انکے جو خرابی ڈالیں ملک میں؟

27

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ

کیا ہم کریں گے ڈروالوں کو برابر ڈھیٹھ لو گوں کے؟

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبْرُوا آيَاتِهِ

ایک کتاب ہے، جو اُتاری ہم نے تیری طرف برکت کی،

وَلَيَتَنَزَّلَ كَرْأُولُ الْأَلْبَابِ

تا (ک) دھیان کریں لوگ اس کی باتیں، اور تا (ک) سمجھیں عقل والے۔

ج

وَوَهَبْنَا لِدَاءً وَدَسْلِيمَانَ

اور دیا ہم نے داؤ د کو سلیمان۔

نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

بہت خوب بندہ۔ وہ ہے رجوع رہنے والا۔

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعُشِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ

جب دکھانے کو آئے اس کے سامنے شام کو گھوڑے خاصے۔

فَقَالَ إِنِّي أَحُبُّتُ حُبَّ الْحَمْرَى عَنْ ذِكْرِ رَبِّيِّ حَتَّى تَوَاهَّتْ بِالْحِجَابِ

تبولامیں نے چاہی محبت مال کی اپنے رب کی یاد سے۔ بہاں تک کہ چھپ گیا اوٹ میں۔

صَلَوةً هَا عَلَيَّ

پھیر (والپس) لاہان کو میرے پاس۔

.29

.30

.31

.32

.33

.34

فَطَّافَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

پھر لگا جھاڑ نے پنڈ لیا اور گرد نیں۔

وَلَقَدْ فَتَّنَ سَلِيمَانَ وَالْقَيْنَاعَلَى كُرْسِيِهِ جَسَدًا

اور ہم نے جانچا (آزمایا) سلیمان کو، اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ،

ثُمَّ أَنَابَ

پھر وہ رجوع ہوا۔

ص

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

بولاۓ رب میرے! معاف کر مجھ کو، اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی، کہ نہ چاہیے کسی کو میرے پیچے۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

بیشک تو ہے بخشنے والا۔

.35

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ مُرْخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

پھر ہم نے تابع کی اسکے باو (ہوا)، چلتی اسکے حکم سے زم زم، جہاں پہنچا چاہتا۔

.36

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصِ

اور تابع کے شیطان سارے، عمارت کرنے (بنانے) والے اور غوطے لگانے والے۔

.37

وَآخَرِينَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ

اور کتنے اور بندھے ہوئے بیڑیوں میں۔

.38

.39

هَذَا عَطاؤُنَا فَأَمْنِنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

یہ ہے بخشش ہماری، اب تو احسان کریا رکھ چھوڑ کچھ نہیں حساب۔

.40

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لِرُلْقَى وَحُسْنَ مَآبٍ

اور اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا۔

.41

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيْوَبَ

اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو،

إِذْنَادِي رَبَّهُ أَيْ مَسَنِي الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ

جب پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگادی شیطان نے ایذا اور تکلیف۔

.42

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ

لات مار اپنے پاؤں سے،

هَذَا مُغْتَسَلٌ بَأَرِدٍ وَشَرَابٍ

یہ چشمہ نکلانہ نے کو ٹھنڈا (پانی) اور پینے کو۔

.43

وَهَبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

اور دیئے ہم نے اس کو اسکے گھروالے، اور انکے برابر انکے ساتھ (اور) اپنی طرف کی مہر (رحمت) سے،

وَذُكْرٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

اور یاد رہنے کو عقل والوں کے۔

.44
وَخُذْ بِيَدِكَّ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْتَثْ

اور پکڑ اپنے ہاتھ میں سینکوں (تکنوں) کا مٹھا (گھٹا)، پھر ان سے مار لے، اور قسم میں جھوٹانہ ہو۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

ہم نے اس کو پایا سہارنے (صبر کرنے) والا،

نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

بہت خوب بندہ، وہ ہے رجوع رہنے والا۔

.45
وَإِذْ كُرِّبَ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

اور یاد کر ہمارے بندے کو، ابراہیم اور اسحق اور یعقوب،

(جو تھے) ہاتھوں (وت) والے اور آنکھوں (بصیرت) والے۔

.46
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالصَّةِ ذِكْرِ الدَّارِ

ہم نے امتیاز دیا ان کو ایک چنی بات (خاص صفت) کا، وہ یاد اس (آخرت کے) گھر کی۔

.47
وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفَينَ الْأَخْيَارِ

اور وہ سب ہمارے پاس ہیں پختے نیک لوگوں میں۔

.48

وَإِذْ كُرِّسْمَا عِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ^ص

اور یاد کر اس معیل کو اور یسع کو اور ذا کفل کو۔ اور ہر ایک تھاخوبی والا۔

.49

هَذَا ذِكْرٌ

یہ ایک مذکور ہو چکا،

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ

اور تحقیق (بیشک) ڈروالوں (متقیوں) کو ہے اچھا ٹھکانا۔

.50

جَنَّاتٍ عَدُونَ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ

باغ ہیں بننے کو، کھول رکھنے کے واسطے دروازے۔

.51

مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْكُونَ فِيهَا بِفَاقَهَةٍ كَثِيرٍ وَشَرَابٍ

تکمیل گائے بیٹھے ان میں، منگواتے ہیں ان میں میوے بہت اور شراب۔

.52

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ أَنْتَرَابٍ

اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی۔

.53

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ

یہ وہ ہے جو تم کو وعدہ ملتا ہے حساب کے دن پر۔

.54

إِنَّهَذَا الرِّزْقُنَامَالَّهُمَنْ نَفَادٍ

یہ ہے روزی ہماری دی اس کو (کبھی) نہیں نہڑنا (ختم ہونا)۔

.55

هَذَا

یہ سن چکے (متقیوں کا انجمام) !

وَإِنَّلِلَطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٌ

اور تحقیق (بلاشبہ) شریروں (سرکشوں) کے واسطے ہے براٹھ کانا۔

.56

جَهَنَّمَ يَصْلُوُهَا فِيْنَسَ الْمِهَادُ

(یہ) دوزخ ہے جس میں پیشہ ہیں (جلسائے جائیں) گے۔ سو کیا بڑی تیاری ہے۔

.57

هَذَا فَلَيْدُ وَقُوَّةٌ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ

یہ ہے (عذاب)، اب اسکو چکھیں (بصورت) گرم پانی اور پیپ۔

.58

وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ

اور کچھ اسی شکل کا (اسکے علاوہ)، طرح طرح کی (عذاب کی) چیزیں۔

.59

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعْكُمْ

یہ ایک فوج ہنستی آتی ہے تمہارے ساتھ،

لَامْرَ حَبَّا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ

جگہ نہ میو (کوئی خوش آمدیدنے ملے) ان کو، یہ ہیں پیٹھے (جلشنے والے) آگ میں۔

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَامْرَ حَبَّا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّ مُتْمُوْهُ لَنَا

.60

وہ بولے، بلکہ تم ہی ہو، کہ جگہ نہ میو (کوئی خوش آمدید نہیں) تم کو، تم ہی پیش لائے ہمارے یہ بلا (انجام)۔

فِيْسِ الْقَرَاءَةِ

سوکیا بر اٹھبر اوہ ہے۔

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ

.61

وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی ہمارے پیش لایا یہ، سوبڑھتی دے اسکومارڈونی آگ میں۔

وَقَالُوا مَا لَنَا نَرَى بِرَجَالًا كُنَّا نَعْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ

.62

اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے کتنے مردوں کہ کہ ہم انکو گنتے تھے بُرے لوگوں میں۔

أَتَخَذُنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغْتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ

.63

کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے (ذاق) میں پکڑا یا چوک گئیں ان سے آنکھیں۔

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصِمٌ أَهْلِ النَّارِ

.64

یہ بات ٹھیک ہونی ہے، جھگڑا آپس میں دوزخیوں کا۔

.65

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ^ص

تو کہہ، میں تو یہی ہوں ڈر سنانے والا،

وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دباؤ والا۔

.66

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

رب آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو انکے نیچے ہے، زبردست گناہ بخشنے والا۔

.67

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ^۶

تو کہہ، یہ ایک بڑی خبر ہے۔

.68

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ

کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے۔

.69

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمُلْكِ إِلَّا عَلَىٰ إِذْ يَتَّصِمُونَ

مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اپر کی مجلس کی، جب آپس میں تکرار کرتے ہیں۔

.70

إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے، کہ اور نہیں میں ڈر سنانے والا ہوں کھول کر۔

.71

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ

جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا۔

.72

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَقَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

پھر جب ٹھیک بنا چکوں، اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان، تو تم گر پڑو اسکے آگے سجدے میں۔

.73

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ لُلَّهِمَّ أَجْمَعُونَ

پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سارے اکٹھے۔

.74

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

مگر ابليس (اس) نے غرور کیا اور تھاوہ منکروں میں۔

.75

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ

فرمایا اے ابليس! تجھ کو کیا انکا وہوا کہ سجدہ کرے اس چیز کو جو میں نے بنائی اپنے ہاتھوں سے۔

أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ

یہ ٹو نے غرور کیا، یا تو بڑا تھا درجے میں۔

.76

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

بولامیں بہتر ہوں اس سے،

خَلْقُتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔

.77
قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

فرمایا تو نکل یہاں سے، کہ ٹومر دود ہوا۔

.78
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَقِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک۔

.79
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ

بولا، تو اے رب! مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جائیں۔

.80
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

فرمایا تجھ کو ڈھیل ہے۔

.81
إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ

اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔

.82
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ

بولا تو قسم ہے تیری عزت کی! میں مگر اہ کروں گا ان سب کو۔

.83

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

مگر جو بندے ہیں تیرے اُن میں پُختے۔

.84

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحُقُّ أَقْوَلُ

فرمایا، تو ٹھیک (حق) بات یہ ہے اور میں ٹھیک (حق) ہی کہتا ہوں۔

.85

لَا مَلَائِكَةَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَلَمَّا نَتَّبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

مجھ کو بھرنا دوزخ تجوہ سے، اور جوان میں تیری راہ چلے ان سے سارے۔

.86

فُلُّ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعْتَكِفِينَ

تو کہہ، میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیگ (اجر)، اور میں نہیں آپ کو بنانے (بناوت کرنے) والا۔

.87

إِنْ هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

یہ تو ایک سمجھوتی (صیحت) ہے سارے جہاں والوں کو۔

.88

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأًهُ بَعْدَ حِينٍ

اور معلوم کر لو گے اس کا حال تھوڑی دیر کے پیچھے (بعد)۔
